



سوال

(140) ذی القعدة میں عمرہ کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

ایک شخص نے حج کے مہینوں میں مثلاً ذی القعدة میں عمرہ کیا پھر مدینہ منورہ چلا گیا اور وہاں حج ٹھہرا رہا، تو کیا اس کے اوپر حج تمتع واجب ہوگا، یا تینوں صورتوں کے درمیان اسے اختیار ہے؟

الجواب بعون الوهاب بشرط صحة السؤال

و علیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

اس پر حج تمتع واجب نہ ہوگا، اگر چاہے گا تو دوسرا عمرہ کرے گا اور تمتع ہو جائے گا، ان لوگوں کے قول کے مطابق جو یہ کہتے ہیں کہ سفر کی وجہ سے تمتع منقطع ہو جاتا ہے۔ نئے عمرہ کے بعد بہر حال وہ تمتع ہو جائے گا، اور قربانی واجب ہو جائے گی، اور اگر چاہے گا تو صرف حج کی نیت کرے گا، اس صورت میں اختلاف ہے کہ وہ قربانی کرے گا یا نہیں؟ صحیح یہی ہے کہ وہ قربانی کرے گا، اس لیے کہ مدینہ منورہ چلے جانے سے تمتع کا حکم منقطع نہیں ہو جاتا، سب سے صحیح قول یہی ہے۔

هذا ما عندي والله أعلم بالصواب

ارکان اسلام سے متعلق اہم فتاویٰ

صفحہ: 232

محدث فتویٰ